

106567 - طواف کی غرض سے چند گھنٹوں کیلئے مانع حیض ٹیکہ استعمال کرنا جائز ہے؟

سوال

ایسے ٹیکے اور گولیاں استعمال کرنے کا کیا حکم ہے جو محض چند گھنٹوں کیلئے حیض روک دیں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

"ضرورت کی بنا پر انہیں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ معالج کے مشورے سے انہیں استعمال کیا جائے، چنانچہ اگر معالج آپ کو مشورہ دے کہ آپ یہ ٹیکہ یا گولیاں استعمال کر سکتی ہیں تو پھر ضرورت کی بنا پر انہیں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے یہ خون کو چند گھنٹوں کیلئے روکیں یا دنوں کیلئے اس سے ان کے حکم میں کوئی فرق نہیں پڑتا" انتہی  
"مجموع فتاویٰ ابن عثیمین" (392 / 22)

اسی طرح شیخ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ: ایک عورت کو طواف افاضہ کے دوران ماہواری آگئی تو اس خاتون نے حج گروپ کی خاتون معالج کو بتلایا، اس پر خاتون نے کہا کہ وہ انہیں ایک انجیکشن لگا دیں گی جو چھ گھنٹے کیلئے خون روک دے گا، تو واقعی خون چھ گھنٹے کیلئے رک گیا اور خاتون نے دوبارہ سے طواف افاضہ کیا، پھر چھ گھنٹے کے بعد اسے دوبارہ خون جاری ہو گیا، تو کیا اس خاتون نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ صحیح ہے؟

اس پر انہوں نے جواب دیا:

"اگر خون بالکل طہر کی طرح رک جائے - خواتین کو طہر کی حالت کا علم ہوتا ہے - تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کا طواف بھی صحیح ہو گا۔ اور اگر مکمل طہر حاصل نہ ہو تو پھر عورت نے طہر سے قبل طواف کیا ہے، اور طہر سے پہلے طواف کرنا صحیح نہیں ہے" انتہی  
"مجموع فتاویٰ ابن عثیمین" (394، 393 / 22)

مزید کیلئے آپ سول نمبر: (20467) اور (36600) کا مطالعہ کریں۔

والله اعلم.